



## سوال

(230) عورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عورتوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے کا کیا حکم ہے؟ اور دلیل کے ساتھ عام شکل میں قبرستان کی زیارت کرنے والیوں کا کیا حکم ہے؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جہاں تک عورت میں قبروں کی زیارت کرنے کا تعلق ہے تو یہ نہ صرف حرام ہے بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر لعنت فرمائی ہے اس لیے بھی کہ عورت کمزور عقل ذکی الحس اور جلد متاثر ہونے والی ہے اور اس لیے بھی کہ جب عورت قبروں کو دیکھے تو وہ اپنی نرمی اور کمزوری کی وجہ سے بار بار ان کی زیارت کے لیے جانے لگی تو اس طرح قبرستان عورتوں سے بھر جائیں گے اور خبیث اور فاجر لوگوں کی چراگاہ بن جائیں گے اور وہ لوگ قبرستانوں میں عورتوں پر گھات لگائیں گے جبکہ قبرستان بھی آبادی سے دور ہوتے ہیں اس طرح عورتوں کے قبرستان جانے سے بہت بڑا شرم پیدا ہوگا لیکن اگر کوئی عورت قبرستان کے پاس سے گزرے اس کا ارادہ تو قبرستان کی زیارت کا نہ تھا مگر وہ ٹھہر گئی اور مشروع سلام کہا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

رہا عورتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا تو یہ ممانعت کے عمومی حکم میں شامل ہے بلاشبہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت نہ کرے بعض علماء نے کہا: وہ زیارت کر سکتی ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دوسری قبروں کی طرح نمایاں نہیں ہے بلکہ وہ تین دیواروں میں گھری ہوئی ہے تو جب عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے گی تو وہ فی الحقیقت قبر کی زیارت نہیں ہوگی بلکہ وہ قبر کے آس پاس کی زیارت ہوگی لیکن ظاہر بات یہ ہے کہ عرف عام میں اس کو زیارت ہی کہتے ہیں لہذا اس کو یہی کافی ہے کہ وہ دوران نمازیہ پڑھے:

"السَّلَامُ عَلَیْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ"

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم! آپ پر سلامتی اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوں"

تو اس کا یہ سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جائے گا اور اس کو اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ (فضلیۃ الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب



مجلس البحث والدراسات  
محدث فتویٰ

## عورتوں کے لیے صرف

صفحہ نمبر 219

محدث فتویٰ